

نَسْمَلَةُ نَصْلَةِ عَلَى سَوْدَاتٍ

جهات

# نفاذ شریعت بل

نفاذ شریعت پاکستانی قوم کی دینی سیاسی معاشرتی اور معاشی ذمہ داری ہے۔ دینی اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تمکن فی الارض کی بنیاد ہی شریعت کے نفاذ پر رکھی ہے۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّا هُمُّ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوَّلُوا إِلَيْكُوْهُ  
وَأَمْرُوا بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ (آل جعہ ۲۱)

ترجمہ: (ای لوگ لیے ہیں کہ) اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور (دوسرے) کو بھی، نیک کام کا حکم دیں اور برسے کام سے منع کریں۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الْكُفَّارُونَ۔

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام)، کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ تو کافر ہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے نازل کیے ہوئے (احکام)، کے مطابق فیصلہ نہ کرنے تو یہی لوگ تو ظالم ہیں۔

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔

ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے نازل کئے ہوئے (احکام)، کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ تو فاسق ہیں۔

سورة الاحزاب میں ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرُ هُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ حَنَّئَ صَلَلَ لَا تُبْيَنَّا۔ (آیت ۳۶)

ترجمہ: اور کسی مومن من مرد یا عورت کے لیے درست نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا حکم دے دیں تو پھر ان کو اپنے (اس) امر میں کوئی اختیار باتی رہ جائے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ عربیگرہ ایسی میں جا پڑا۔

مولانا لال آیات سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کی حکومت کا مقصد وحید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قانون شریعت کا نفاذ ہے اور اس میں کسی قسم کے اختلاف یا پسند ہی کی گنجائش نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک بمارے ملک کے اوپر حصی بھی بلا میں نازل ہوئیں ان کی وجہ صرف یہ رہی کہ ہم نے شریعت کے نفاذ سے یہاں غماض کیا یا اس عمل میں تعویق دتا تیر سے کام لیا۔ عرصے تک تو یہی پتہ نہ چل سکا کہ ناخدا یا ان اقتدار ملک کو کس سمت میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے یہ بھاجانا کہ وہ اس ملک کو اس کے بینیادی نظریات کی طرف چلانا چاہتے ہیں۔ تفصیلات میں جانے کا موقع میں تابع م انا ضرور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سلی مرتبتہ شاہنشاہ کے مارشل لار کے بعد منزد کا تعین ہوا اور قوم کو اسلامی نظام کی آمد کی خوشخبری سنائی گئی۔ اسلامی حدد کا نفاذ نظام زکوٰۃ و عشاء احرار رمضان آرڈیننس بلا سود بیکاری کا آغاز یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی حیثیت نفاذ شریعت کے سلسلے میں ابتدائی اقدامات کی ہے۔ البته یہ کہا جا سکتا ہے کہ بوجہ نفاذ شریعت کا عمل نہایت سست رفتار رہا اور خاطر خوا، نتائج حاصل نہ ہو سکے یہاں تک کہ دسمبر ۱۹۸۵ء کے اوائل میں مارشل لاء المظاہر یا ایک جموںی حکومت جناب وزیر اعظم محمد خال جو شیخی کی سر کردگی میں برسر اقتدار آئی اس حکومت کا انداز خالص جمہوری ہے یعنی حکومت جسے مخالفین کو بر قسم کی آزادی دی گئی ہے اور ایسا ملت ابھے کہ موجودہ حکومت کچھ

کر گزرنما چاہتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ منوجوہ حکومت اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو۔ تاہم نظریاتی مملکتوں کی تمامتیر کامیابیوں کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ نظریہ برداشت کا راستے جائیں جن کے لیے اس مملکت کا قیام عمل میں آیا تھا اور یہ بات کسی استدلال کی محتاج نہیں کہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے نام پر قائم ہوا لہذا وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ فی الفور اور بلا تاخیر ملک میں شریعت کی بالادستی قائم ہو۔

حالیہ ریفرنڈم میں صدر مملکت نے اسی بنیاد پر عوام گوٹ لیا تھا کہ وہ اسلامی نظام کو برباد کریں گے نیز جنرل ایکشن کے موقعہ پر تمام منتخب ہونے والے ارکان ائمبلی نے اپنے ووٹروں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ منتخب ہونے کے بعد وہ ملک میں اسلامی نظام قائم کریں گے اس لیے بھی ان کی شرعی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جن سے ملک کے نظام پر قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہو۔

سیاسی طور پر بھی ایک ایسے ملک میں جو چار صوبوں پر مشتمل ہو ہر صوبے کی اپنی مادری زبان اور مخصوص معاشرت ہو باہم مربوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قدر مشترک ہو اسے اذیت دی جائے۔ ہمارے چار صوبوں کے مابین نہ زبان مشترک ہے نہ معاشرت۔ اگر کوئی بند من ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تو وہ وہی ہے جو قیامت پاکستان کے وقت برصغیر پاک و بند کے لئے والے ہر مسلمان کی زبان پر تھا لیعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ

یعنی اسلامی نظام حیات کے قیام کا بغیرہ مشرقی پاکستان کی عیحدگی کی سب سے بڑی وجہی ہے کہ ہم نے اپنے اس بازو کو جو ایک ہزار میل کے فاصلے پر واقع تھا اور جس کو مختینی بازو سے سو اسے اسلام کے کوئی دوسرا چیز وابستہ نہیں رکھ سکتی تھی میں اکیدہ می اور یقینی طالبوں کے ذریعے جوڑے رکھنے کی کوشش کی تھی اور اسلامی اخوت و مساوات اسلامی عدل اجتماعی و مساوات کو پرداز پڑھنے کا موقعہ نہ ملا جس سے فائدہ اٹھا کر غدار ان دشمن اور بیرونی دشمنوں نے ہمارے نوکر دشمنوں کو ہم سے جد اکر دیا۔ یاد رکھیے کہ اس وقت بھی ملک میں

غدار موجود ہیں اور بیرونی دشمن مشرق و مغرب دونوں سرحدوں پر مصروف عمل ہیں۔ پنجاب کے مسلمان کو گواہ کے مسلمان سے جوڑے رکھنے والی طاقت جس طرح آج سے چودہ سو برس پہلے اسلام تھا اسی طرح آج بھی اسلام ہی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت سوائے اسلام کے طور خم کے مسلمان کو سندھ کے مسلمان سے والبستہ نہیں رکھ سکتی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے وقت کسی کا استقرار نہیں کرتا دنیا کی ساری طائفتی طاقتیں اسلام کے اس قلعہ پاکستان کی دیواں میں دراٹیں پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ یہودی لبی کے گماشتہ پاکستان میں بھی موجود ہیں ہمارا ملک اس وقت بیرونی اور اندر رونی خطرات میں گھرا ہوا ہے باہر سے فتنہ ز فراہم کیے جا رہے ہیں اور ایک ایک جلسے اور جلوس پر کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں عوام کو دین اور اقدار دین سے برکشنا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیندار طبقوں کو فرقوں میں بانٹا جا رہا ہے تحریک کاری بد امنی جبر و استھان ظلم و بربریت رشوت و مفارقہ پرستی کا بازار گرم ہے ملک کے خوام کا سکون اور احساس تحفظ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ حالات اس بات کے متضاد نہیں ہیں کہ ملک کی تظیباتی سرحدوں کا تحفظ کیا جائے اور ان اقدار کو فروع دیا جائے جنہیں اپنانے کے باعث ریگزاد عرب کے صحرائشین بنیان ہر صوص بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور قیصر کسری کے تخت تاج کو اپنے پاؤں سے رو نڈ لا لھا لند اثابت ہوا کہ دینی ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت ہماری سیاسی ضرورت بھی ہے۔

قیام پاکستان کے بعد بد قسمتی سے ہماری ملکت مهاجریں کے مسئلے سے دو چار بیوگئی اور بہت جلد بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ عاطفت ہمارے سردار سے امکنگیا اور بد قسمتی دربد قسمتی کے بقول سردار عبدالرب نشرت مرحوم۔

### منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے

اس وجہ سے وہی جاگیر دار اور وڈیر نے پاکستان کے وسائل معاشر پر قابض رہے ان کے طرز استھان اور انداز جبر و ظلم میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ اس کا تنبیہ ہوا کہ عوام کی مغلوب الحالی بہستور باتی رہی اور اسلام کے عدل اجتماعی کی برکات سے عوام محروم رہے۔ یہ امر کتنا تجھب الگینز ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہو کہ

کا د الفقر ان یکون کفرا۔

(قربی ہے کہ تندگتی کفر تک پہنچا دے)۔

من کان عند لا فضل ظهر فليعد به على  
من لا ظهر له و من کان عند لا فضل زاد  
فليعد به على من لا زاد له حتى ظننا انه  
لا حق لا جد من افي الفضل۔

(سنن ابن داؤد: ١: ٢٣٣ طبع کانپور)

جس کسی کے پاس زائد راز ضرورت، سواری ہو وہ ایسے آدمی کو سواری دے دے جس کے پاس سواری نہ ہوا اور جس کے پاس زائد کھانا ہو وہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس کھانا نہ ہو (راوی کہتے ہیں)، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ زائد راز ضرورت چیزیں ہم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں۔

اس کے نام لیواؤں کی مملکت میں ایک غریب کا بچہ دوا کے بغیر مر جاتا ہے اور امیر کے کتنے کے علاج کے لیے اسپیشلٹ ڈاکٹر بلائے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم خدا نے توفیت کے کنارے مرنے والے کتنے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور فاروق اعظم کے نام لیواؤں کا حال یہ ہے کہ اپنی کوئی کے زیر سایہ ایک بھی میں تطبیخے والی مسلمان روح کو بھی سسارا دینے کوتیا رہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کا معاشری نظام اپنی تمام تربکات و ثمرات کے ساتھ نافذ کیا جائے تاکہ عوام کو یہ احساس ہو کہ واقعہ وہ کسی اسلامی فلاحی مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں۔

ہم شکر گزار ہیں سینیٹر قاضی عبد اللطیف اور سینیٹر مولانا سمیع الحق کے جنوں نے اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس فرماتے ہوئے سینیٹ میں بشریت بل پیش فرمایا ہے۔ بشریت بل کا مطالعہ کرتے وقت تھکن ہے لیعنی حضرات یہ کہیں کہ اس کی چند شقیں دستور سے

متصادم پادستور پر متنزرا یہ ہیں۔ جہاں تک متصادم ہونے کا سوال ہے تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر شریعت بل کی کوئی شق و ستور کی کسی دفعہ سے متصادم ہو تو چونکہ آئین کی دفعہ ۷ میں یہ تصریح ہے کہ ملک میں کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی اس لیے بجا سے اس کے کوئی شریعت بل کو پس پشت ڈال دیا جائے دستور میں ترمیم کرو جائے کیونکہ شریعت منہل من اللہ ہے اور دستور انسانی ذہن کی تخلیق۔ اور اصول یہ ہے کہ اگر انسانی ذہن کی کوئی تخلیق وحی سے متصادم ہو تو وحی حاوی ہوگی۔

یقین ہے کہ عزت مأب وزیر اعظم پاکستان جو صحیح معنوں میں اسلامی درد رکھتے ہیں نیز ہمارے فاضل منتخب ارکین سینٹ، اپنی اسلام دوستی حسب الوطی اور جذبہ ایمانی کے تحت بالاتفاق شریعت بل کو منظور فرمائ کر اپنے لیے فلاح دارین کا سامان کریں گے اور اس طرح خلق اور خالق دونوں کے آگے سرخ رو ہوں گے۔ ربم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے محترم وزیر اعظم اور معزز ارکین سینٹ کو اس عظیم کام کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے اکیں۔